



سوال

تریت و اصلاح کے لیے من گھڑت کہانیاں بنانا

جواب

سوال: السلام علیکم! کیا کسی شخص کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ تریت و اصلاح کے لئے دین کے نام پر من گھڑت کہانیاں اور مثالیں پیش کرے۔؟ اصل بنیادی مقصد اصلاح ہی کا ہو؟ کیا شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟

جواب: اگر تو آپ کی مراد یہ ہے کہ جیسا کہ شیخ سعدی اصلاح کے لیے حکمت بھری حکایات بیان کرتے ہیں تو ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین نہیں ہے بلکہ شیخ سعدی کی حکایات ہیں اور ان سے مقصود ایک اخلاقی سبق یا مارل لیسن حاصل کرنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ بچوں کو لالچ کی مذمت کے لیے کہنے کی کہانی سنا دیتے ہیں اور اتحاد کا سبق دینے کے لیے تین بیلوں کی کہانی سناتے ہیں۔

اسی طرح مدارس دینیہ میں مقامات حریری نصاب میں داخل ہے اور یہ حقیقی قصوں پر مشتمل نہیں ہے لیکن اس کا مقصود تعلیم و تربیت ہے۔ اس کے جواز کی دلیل صحیح بخاری کی روایت مبارکہ

حدیث ابن عباس بنی اسرائیل ولا حرج'

یعنی بنی اسرائیل سے قصے کہانیاں بیان کرو اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مزید تفصیل کے لیے یہ عربی لنک دیکھیں۔
اور اگر اس سے مراد دین میں بھوٹ گھڑنا ہے تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔